

## موضوع : روایتی برانچ کا اسلامی بینکاری میں تبادلہ

آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کے ہم پر مسلسل اعتماد سے آپ کی مندرجہ بالا برانچ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان (SBP) کی اصولی منظوری کے بعد اسلامک برانچ میں تبادلہ کیلئے منتخب کیا گیا ہے ۔

یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ ( UBL ) ، اسلامی بینکنگ کی مسلسل کوشش رہی ہے کہ اپنے کسٹمرز کو بہترین خدمات اور شریعہ کے مطابق پراڈکٹس نئے اور جدید انداز میں فراہم کرے جو آپ کا ہمارے ساتھ تعلق مزید پختہ کرے اور آپ کی روز مرہ زندگی میں جدت اور سہولت پیدا کرے ۔ یو بی ایل امین ، یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ ( UBL ) کی اسلامی بینکاری کا شعبہ ہے ۔ یو بی ایل کی 1300 سے زائد آن لائن برانچز ہمارے کسٹمرز کی سہولت کیلئے بھی موجود ہیں ۔

یو بی ایل امین کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر بنانے کیلئے نیچے دی گئی ہدایات پر اپنے اکاؤنٹ کے مطابق عمل کریں ۔ اسلامک بینکنگ کرنٹ اکاؤنٹ قرض کی بنیاد پر جبکہ سیونگ اکاؤنٹ مضاربہ کی بنیاد پر کھولے جاتے ہیں ( جہاں کسٹمرز رب المال اور بینک مضارب ہوتا ہے ) اور مضاربہ کے تمام شرائط و ضوابط لاگو ہوتے ہیں ۔ منافع کا تعین اور اس کی تقسیم پہلے سے طے کردہ Weightages کے مطابق ہوتی ہے جو کہ (SBP) کی ہدایات کے مطابق ہے اور تبدیل ہوتے رہتے ہیں ۔

سیونگ اکاؤنٹ ہولڈرز	اگر آپ اپنے موجودہ سیونگ اکاؤنٹ کو اسلامک سیونگ اکاؤنٹ ( جو شریعت کے مطابق ہے ) میں تبدیل کروانا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی رضامندی کے خط (Consent Letter) بشمول شرائط و ضوابط (Terms and Conditions) کو اپنے دستخط کے ساتھ متعلقہ برانچ میں اکیس (21) یوم کے اندر جمع کرائیں ۔ اگر آپ کی رضامندی دیئے گئے وقت میں برانچ میں موصول نہ ہوئی تو آپ کا موجودہ اکاؤنٹ (UBL) کی نامزد کردہ برانچ میں منتقل کر دیا جائے گا۔ (شرائط و ضوابط ہماری ویب سائٹ <a href="http://www.ubldigital.com">www.ubldigital.com</a> پر ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں) ۔
کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز	آپ کا موجودہ کرنٹ اکاؤنٹ ، ظاہری رضامندی (Implicit approval) کی بنیاد پر اسلامک کرنٹ اکاؤنٹ میں تبدیل کر دیا جائیگا ۔ اگر آپ اپنے موجودہ اکاؤنٹ کو اسلامک اکاؤنٹ میں تبدیل نہیں کروانا چاہتے تو غیر رضامندی کا خط (Dissent Letter) پر کریں اور اکیس (21) یوم میں اپنی متعلقہ برانچ میں جمع کرائیں تاکہ آپ کا اکاؤنٹ موجودہ قواعد و ضوابط پر (UBL) کی مندرجہ ذیل نامزد کردہ برانچ میں منتقل کر دیا جائے بصورت دیگر آپ کا موجودہ اکاؤنٹ ، موجودہ برانچ میں اسلامک اکاؤنٹ میں تبدیل کر دیا جائیگا جو کہ شریعت کے عین مطابق ہے۔
تمام دیگر اکاؤنٹس ہولڈرز	البتہ تمام معیادی کھاتہ جات (TDRs) بشمول منسلک اکاؤنٹس ، غیر متعلقہ اکاؤنٹس اور ایڈوانس (قرضہ جات) / سرمایہ کاری ، UBL کی قریبی برانچ میں منتقل کر دیئے جائیں گے ۔

نامزد کردہ یو بی ایل کی برانچ : اباسین مارکیٹ مینگورہ / چکدرہ لوئر دیر

آپ کی برانچ انشاء اللہ یکم اکتوبر 2021 تک اسلامک بینکنگ برانچ میں تبدیل ہو جائیگی ۔

ہم آپ کے بینک کے ساتھ تعلق کے شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ تعلق ایک دیرپا اور باہمی فائدہ کے ساتھ قائم رہے گا ۔ مزید معلومات کیلئے اپنی برانچ یا مندرجہ ذیل ٹیلی فون نمبرز پر رابطہ کریں ۔

ایڈریس: نویں منزل ، نار تھ ونگ ، یو بی ایل ٹاور ، آئی ۔ آئی ۔ آئی چندریگر روڈ کراچی ۔

فون: 021-99033Ext 2380,2225

شکریہ

تنویر فرحان محمود  
ہیڈ اسلامک بینکنگ

خواجہ اقبال حسین  
جنرل مینیجر - خیبر پختونخواہ